



سوال

(583) رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قیام میں ہاتھ باندھنا مسنون ہے اور شرعی اصطلاح میں قیام کا اطلاق صرف قبل از رکوع حالت پر ہوتا ہے جس میں قرأت ہے۔ ورنہ لازم آئے گا، کہ ہر رکعت میں دو سجدوں کی طرح دو قیام ہیں، جب کہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک رکعت میں تکرار قیام صرف صلوة کسوف میں معروف ہے۔ اس بناء پر بعد از رکوع کی حالت کو اعتدال یا رفع بعد الرکوع یا قومہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (حجۃ البالغہ)

محدثین کرام کی عادت ہے، کہ پہلے قیام کو علی الاطلاق بیان کرتے ہیں اور دوسرے کو مقید، اور جہاں دونوں لکھے آئیں، پہلے کو لفظ قیام سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے کو اعتدال یا رفع بعد الرکوع سے۔

اس سے معلوم ہوا کہ "سنن نسائی" کی روایت میں

'اذا کان قائماً، یا کفماً قام قبض ینیسہ علی شمالہ' سنن النسائی، وضع الیمن علی الشمال فی الصلوة، رقم: ۸۸۴ کا تعلق پہلے قیام سے مخصوص ہے۔ لفظ 'اذا'، رکوع سے پہلے حالت کے ساتھ مختص ہے۔ عام نہیں۔ بعض حالات میں "اذا" کے عدم عموم کی بے شمار امثلہ موجود ہیں۔ مثلاً فرمایا رب العزت نے: 'اذا تنلی علیکم ایث الرحمن خزوا سجداً و بیحیا (مریم: ۵۸) و اذا قرئ علیکم القرآن لا یسجدون (الانشقاق: ۳۱) پھر رکوع کے بعد ہاتھ پھورنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ انسان کی طبعی حالت یہی ہے۔ البتہ باندھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جو یہاں موجود نہیں۔ اس بناء پر اہل علم نے کہا ہے، کہ وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

جس طرح کہ بسرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ طلق کی حدیث چونکہ اصل کے مطابق ہے۔ اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور بسرہ کی حدیث ناقلاً عن الاصل ہے۔ لہذا راجح بات یہی ہے، کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور براء کی حدیث میں ہے۔

نبی کا رکوع و سجد میں اور سجدوں کے درمیان، اور رکوع کے بعد وقفہ قریباً برابر ہوتا۔ سوائے قیام اور تشہد کے کہ وہ لہجے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیام کا اطلاق صرف رکوع سے



پہلی حالت پر ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں علامہ البانی فرماتے ہیں: ”مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کہ اس قیام میں ہاتھ باندھنا بدعت اور گمراہی ہے۔ کیونکہ صفتہ الصلوٰۃ کی اتنی ساری احادیث میں سے کسی می وارد نہیں۔ اگر اس کا کوئی اصل موجود ہوتا، تو منقول ہونا چاہے۔ ایک طریق سے کیوں نہ ہو۔ اس کی تائید اس بات سے ہوئی ہے، کہ سلف صالحین میں سے کسی نے یہ فعل نہیں کیا اور جہاں تک مجھے علم ہے، ائمہ حدیث میں سے کسی نے اس مسئلہ کو پھیرا تک نہیں۔“ صفتہ الصلوٰۃ، ص: ۱۱۵

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 515

محدث فتویٰ